

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَيَخْتَبِئُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِقَرْبَ حُوا

سِرِّ الدِّينِ مُصطفى

تصنيف:
فقيهه العصر، بقية السلف حضرت علامه
ال الحاج مفتى حيدر أمين حبنا مدر طلاقا

ناشر:
جامعة تبليغ الإسلام

مفتي آباد شاہ کوٹ روڈ نزد کھڑیانوالہ ضلع فیصل آباد۔

Ph: 041-361860
www.islamforu.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلَيَفْرَحُوا

مِيلَادُ مُصطفٰى

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ

تصنيف:

فقیہ عصر الحجاج مفتی محمد ایں صاحب
مولانا دا بربکا، ۱۳۷۴ھ

نشان:

جَامِعَةِ تَبْلِيغِ الْاسْلَامِ

مفتی آباد نزد کھڑیانوالہ فیصل آباد

جملہ حقوق حق مصنف محفوظ ہیں۔

نام کتاب ————— میرلاد مصطفیٰ
مصنف ————— فیض صالح مفتقی محمد امین صاحب
قیمت —————
ٹالکشل ڈیزائن ————— الباسط گرافس لاہور
تعداد —————

﴿مِيلَادُ مُصطفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
 الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ قُلْ بِغَضْلِ اللَّهِ
 وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلَيَفْرُحُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيْمُ.

سامعین حضرات! آج آپ کے سامنے میلاد النبی الکریم ﷺ کے
 جائز اور بابرکت اور مستحب ہونے کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کا
 شرف حاصل کر رہا ہوں۔

سب سے پہلے قرآن مجید سے پھر احادیث مبارکہ سے زال بعد
 آئندہ دین اور علمائے کرام کے اقوال مبارکہ سے پھر واقعات صادقة
 سے ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔

﴿ قرآن مجید ﴾

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قُلْ بِنَفْضِ اللّٰهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرُحُوا۔ ﴿ سورہ یونس آیت ۵۸ ﴾

اے محبوب آپ فرمادیں اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس
کی رحمت کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناو۔

اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت اس سے کیا مراد ہے مختلف اقوال ہیں لیکن
سیدنا ابن عباس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے:
إِنَّ الْفَضْلَ إِلَّا عَلَمُ وَالرَّحْمَةُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ۔ ﴿ تفسیر روح المعانی - ص ۱۲۱، سورہ یونس ﴾

یعنی فضل سے مراد علم اور رحمت سے مراد حبیب خدا محمد مصطفیٰ ﷺ
ہیں۔

نیز تفسیر روح المعانی میں ہے: وَالْمَشْهُورُ وَصَفُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ كَمَا يُرِيدُ شَدَّ الْيَهِ

فَوْلَهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

(ص ۱۳۱)

یعنی نبی کریم ﷺ کا وصف رحمت مشہور ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان
ذیشان: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ راہنمائی کر رہا
ہے۔

نیز تفسیر نعیمی میں ہے: اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن مجید ہے اور رحمت
حضور انواعیت ہے۔

نیز اسی میں ہے: اے محبوب لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر انہیں یہ
بھی حکم دیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ
عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں

یہ نعمت آئی ہے رمضان مبارک خصوصاً شب قدر اور ربیع الاول

خصوصاً بارہویں تاریخ میں کہ رمضان میں اللہ کا فضل یعنی قرآن

آیا اور ربیع الاول میں رحمۃ اللعما میں یعنی محمد مصطفیٰ ﷺ پیدا

ہوئے۔

(تفسیر نعیمی - ص ۲۹، سورہ یونس)

نیز تفسیر ضياء القرآن میں ہے: حصول نعمت پر اظہار سرارت حکم الہی

ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت عظمی ہے اس پر

جتنی خوشی کی جائے کم ہے ۔ (تفسیر ضياء القرآن - ص ۳۰۹، سورہ یونس)

اور جب یہ واضح ہو گیا کہ سب جہانوں کی رحمت حبیب خدا سید انبیاء

ہیں ﴿صَلَوَاتُ اللّٰہِ وَسَلَامٌ مِّنْهٗ عَلَيْہِ وَسَلَامٌ عَلَیْہِمْ وَسَلَامٌ عَلَیْہِمْ اَمْمَوْلَیْنِ﴾ اور فرمان ذوالجلال

ہے کہ رحمت کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناؤ لہے اس ب جہانوں پر

لازم ہے کہ سرکار کی آمد پر خوشیاں منائیں ۔

بدیں وجہ بزرگان دین اولیاء کرام نے فرمایا کہ جب سَيِّدُ الْعَالَمِينَ

حبیب خدا علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو سوائے شیطان اور اس

کی پارٹی کے سب جہانوں نے چرند پرندے نے وحش و طیور نے

زمیں و آسمان والوں نے خوشیاں منائیں جیسے کہ آئندہ صفحات پر آرہا

ہے ۔

یا اللہ ہمیں بھی انہیں میں سے کر جو کہ رحمۃ المعالمین صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش

مبارکہ پر خوشیاں مناتے ہیں ۔ آمين

﴿ حدیث پاک ﴾

۱

ابولہب کی ایک لوئڈی تھی جس کا نام ثویپہ تھا اور جب رحمۃ للعالمین شفع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو اس ثویپہ نے ابو لہب کو مبارک بادی مبارک باد سن کر ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کر کے اس ثویپہ لوئڈی کو سید دوعا المصطفی اللہ کی پیدائش مبارکہ کی خوشی میں آزاد کر دیا اور جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بھائی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور پوچھا بھائی کیا حال ہے تو ابو لہب نے کہا میں دوزخ میں ہوں لیکن پیر کے دان مجھے اس انگلی سے کوئی آرام دہ چیز ملتی ہے جس سے مجھے آرام ملتا ہے یونکہ میں نے اس انگلی سے اشارہ کر کے ثویپہ کو آزاد کیا تھا۔

چنانچہ صحیح بخاری میں ہے: قال غزوة وثوبية مهلاة
لابن لهب كان أبو لهب اغتنمها فاز صفت النبي
صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريمه

لبعض اہلہ ﴿حکی آئۃ العباس﴾ بشر حنیۃ قال له
ما ذا تبیت قال ابو لہب لم الق بعد کم غیر آنی
سقیت فی هذه بعثتا قتی ثویبہ.

صحیح بخاری - ص ۶۲۷ باب و تحرم من الرضاة ما تحرم من النسب

اور اس حدیث پاک کے حواشی میں ہے: قیل هذا خاص به
اگراماً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم كما خف عن ابی طالب بسببه وقال لا مانع من تخفيض العذاب عن کل کافر عمل خيراً.

نیز شیخ الحمد شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
ما ثبت من السنة میں تحریر فرمایا: وَأَرْضَعْتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم ثویبۃ عتیۃ ابی لہب اغتنقها جنین بشرته
بولادته صلی اللہ علیہ وسلم وقد رأى ابو لہب
بعد موته فی النوم فتیل له ما حائل قال فی
النار الا انه خف عنی کل لیلة اثنین و امصن من

بین اصبعی هاتین ماء و اشار الى راس اصبعیه

وَإِنَّ ذَلِكَ بِعِتْقَاتٍ قَتَنْتُ ثُوَيْبَةَ عِنْدَ مَا بَشَرَ تُنْزِلُ
بِوْلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارِضًا عَنْهَا
لَهُ -

① ما ثبت من السنة - ص ۲۰ ② مواهب لدنیہ مع الزرقانی - ص ۱۳۸

③ اثبات المولد والقيام - ص ۲۳

یعنی نبی اکرم ﷺ کو ابوالہب کی آزاد کردہ لوئڈی ثویبہ نے بھی دودھ پلایا تھا ابوالہب نے ثویبہ لوئڈی کو اس خوشی میں آزاد کیا تھا جبکہ ثویبہ نے ابوالہب کو نبی کریم ﷺ کی ولادت پاک کی خوشخبری سنائی تھی اور جب ابوالہب مر گیا تو خواب میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پوچھا تھا کیا حال ہے تو ابوالہب نے کہا میں دوزخ میں ہوں لیکن ہر پیر کی رات مجھ پر عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میں ان دو انگلیوں کے درمیان سے پانی چوستا ہوں اور اس نے دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ انعام مجھے اس لئے ملا ہے کہ جب مجھے ثویبہ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ولادت کی مبارکبادی تھی تو میں ن

اس کو آزاد کر دیا تھا اور ثویبہ کے دودھ پلانے کی وجہ سے ۔
 اس حدیث پاک کو بیان کر کے حضرت علامہ حافظ الحدیث ابوالخیر
 شمس الدین ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: فاذا كان هذا
الكافرُ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ بِذمَّهِ جُوزِي فِي
النَّارِ بِغَرْجِهِ لِيَلَةَ مَوْلَدهِ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوْلَدِ
مِنْ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُسْرُ بِمَوْلَادِهِ وَيُبَذَّلُ مَا
تَصَلُّ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحِبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِعُمُرِيْ اِنَّمَا يَكُونُ جَزَانَهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ
أَنْ يُؤْذَ خَلَةً بِشَضُّلِهِ الْعَمِيْمُ جَنَّاتُ النَّعِيْمِ۔

- ① مواهب الدنيا وشرح لمرقاوی - ص ۱۳۹ جلد ۱ ② ما ثبت من السنة - ص ۲۰
 ۳ اثبات المولد والقيام - ص ۲۲۳ ③ مختصر سیرۃ الرسول - مصنف شیخ عبد الله
 بن محمد بن عبد الوہاب نجدی - ص ۱۲

یعنی اے عزیز غور کر کے جب یہ کافر ابو لہب جس کی نہمت میں
 قرآن پاک ہے کی سورۃ نازل ہوئی اس کو حبیب خدا علیہ السلام کی
 ولادت پاک کی خوشی کی وجہ سے دوزخ میں یہ انعام ملا۔

تو نبی کریم ﷺ کے اس امتی مسلمان کا کیا حال ہو گا جو نبی کریم ﷺ کی ولادت پاک کی خوشی میں اور نبی اکرم ﷺ کی محبت میں اپنی استطاعت کے مطابق ﷺ کے دینے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے مجھے جان کی قسم ایسے مسلمان کی جزا اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا هذَا بِجَاهِ مَنْ أَتَّخَذْتَهُ حَبِيبًا فِي الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(اقوال مبارکہ)

①

شیخ الحمد شیخ شاہ عبدالحق دہلوی قدس سرہ نے امام جزری کا قول مبارک نقل کر کے فرمایا: وَلَا زالَ أهْلُ الْإِسْلَامَ يُحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلَدِهِ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَامَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيُزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنِونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلَدِهِ

الْكَرِيمُ وَيَظْهُرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ

﴿ما ثبت من السنة ص ۶۰﴾ عمیم۔

یعنی اہل اسلام ہمیشہ نبی کریم ﷺ کی ولادت پاک کے مہینہ میں محفییں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ دعوییں کرتے اور میلاد النبی ﷺ کے مہینہ میں قسمات قسم کے صدقات خیرات کرتے چلے آ رہے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نبی اکرم رحمۃ للعالمین ﷺ کا میلاد پاک بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں بدیں وجہ ان پر فضل عام برستا ہے۔

(۲)

نَزَّلَ اللَّهُ أَمْرًا أَتَّخَذْ لِيَالِيَ شَهْرَ مَوْلَدِهِ الْمَبَارَكِ
فَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا أَتَّخَذْ لِيَالِيَ شَهْرَ مَوْلَدِهِ الْمَبَارَكِ
أَغْيَادًا لِيَكُونَ أَشَدُّ عِلْمًا عَلَىٰ مَنْ فِي قُلُوبِهِ مَرْضٌ
وَعَنَادٌ.

﴿ما ثبت من السنة ص ۶۰﴾

یعنی میلاد پاک کی برکتوں سے جو تجربہ سے ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میلاد پاک سال بھر کے لئے امن و امان ہے اور جلدی خوشخبری مراد کے حاصل ہونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ایسے بندے پر جو اس میلاد پاک کے مہینے کی راتوں کو عید مناتا ہے تاکہ ان لوگوں پر جن کے دلوں میں بعض اور عناد کی بیماری ہے ان پر سخت چوت لگے۔

اور یہ شیخ الحقیقین شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کوئی معمولی ہستی اور عام مولوی نہیں بلکہ یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کو اپنے بیگانوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف الجواب میں لکھا: چونکہ شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

بہت بڑے محدث ہیں اس لئے انہوں نے جو یہ دس قسمیں

شفاعت کی لکھی ہیں کسی حدیث سے معلوم کر کے لکھی ہوں گی کو

ہم کو وہ حدیث نہیں ملی مگر چونکہ شیخ کی نظر حدیث میں بہت وسیع

ہے اس لئے ان کا یہ قول قابل قبول ہے

﴿اشرف الجواب - ص ۱۵۵ جلد ۳﴾

نیز حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ کے متعلق مولانا

اشرف علی صاحب تھانوی نے افاضات یومیہ میں لکھا ہے:

بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت

غیبت میں روزمرہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب

ہوتی تھی ایسے حضرات حضوری کہلاتے ہیں انہیں میں سے ایک

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں کہ یہ بھی اس دولت سے

مشرف تھے اور صاحب حضوری تھے 》 (افاضات یومیہ - ص ۱۰۰ جلد ۹)

نیز حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ کے متعلق مولوی رشید

احمد صاحب گنگوہی صدر دیوبند نے لکھا ہے: اَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ

نُورٍ فَأَوْلَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ إِلَّا فُلَاكَ۔ یہ حدیثیں کتب

صحاب میں موجود ہیں ہیں مگر شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے

اَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٍ کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی کچھ اصل

ہے۔ 》 (فتاویٰ رشید یہ مبوب - ص ۹۸)

قابل غور بات ہے کہ احادیث مبارکہ میں حضرت شیخ قدس سرہ پر اتنا

اعتماد و اعتبار ہے کہ بن دیکھے حضرت شیخ کی بات مان لی جاتی ہے تو

میلاد پاک میں کیوں ان کے قول مبارک کو سخنراہ دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بغض و عناد سے بچائے رکھے۔

(۳)

یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

فَتُلْكَ اللَّيْلَةُ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِلَا شُبُّهَةٍ لَا إِنْ

لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ لَيْلَةُ ظُهُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ مُعْطَاهُ لَهُ ﴿ما ثبت من النية - ص ۵۹﴾

یعنی میلاد پاک کی رات بلاشبہ لیلة القدر سے افضل ہے کیونکہ میلاد پاک کی رات میں سید العالمین ﷺ کی ذات پاک کا ظہور ہوا اور لیلة القدر حبیب خدا ﷺ کو عطا ہوئی۔

(۲)

نیز شیخ الحمد شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

وَلَا إِنْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَقَعَ التَّفْضُلُ فِيهَا عَلَى أُمَّةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلَةُ الْمَوْلِدِ

الشَّرِيفُ وَقَعَ التَّفْضُلُ فِيهَا عَلَى سَائِرِ
الْمُوْجُودَاتِ فَهُوَ الَّذِي بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وَعَمَّتْ بِهِ نِعْمَتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ مِنْ أَهْلِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ۔ (ما ثبت من السنة - ص ۵۹)

یعنی میلاد پاک کی رات اس لئے بھی لیلة القدر سے افضل ہے کہ
لیلة القدر کی وجہ سے صرف امت مصطفیٰ ﷺ پر فضل و کرم نازل ہوا اور
میلاد پاک کی رات کی وجہ سے ساری خدائی پر فضل و کرم نازل ہوا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو سب جہانوں کے لئے رحمت
بننا کر بھیجا ہے اور نبی اکرم ﷺ کی وجہ سے ساری خدائی پر نعمت عام ہوئی
خواہ وہ آسمان والے ہوں یا زمین والے۔

تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ میلاد پاک کی رات کی برکت سے اگلوں
پچھلوں نوریوں ناریوں، زمین والوں آسمان والوں ساری خدائی پر
فضل و کرم اور رحمت نازل فرمائے۔

مگر حبیب خدا سید انبیا ﷺ کا کلمہ پڑھنے والے اس دن مسجدوں کو

اللہ تا لے گا کر منہ چھپا کر بیٹھ جائیں گویا کہ وہ اپنے اس کردار سے کہنا نہیں
چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں تیری رحمت اور تیرے فضل کی ضرورت نہیں۔
بس ہمیں شیطان کی خوشنودی کافی ہے کیونکہ اس دن شیطان نے
ہی واویلا کیا تھا۔

علامہ ابوالقاسم سہیلی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

اَنَّ اَبْلِيسَ لَعْنَةُ اللَّهِ رَبِّنَا تِرْبَةُ حَيْنَ
لَعْنَ وَرَتَةُ حَيْنَ اَهْبَطَ وَرَتَةُ حَيْنَ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَتَةُ حَيْنَ اُنْزَلَتْ فَاتِحةُ
الْكِتَابِ قَالَ وَالْأَنْتُنُ وَالذُّخَارُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
﴿عیون الاشر السیرۃ النبویۃ لابن کثیر، ضیاء النبی - ص ۲۵۶ جلد ۲﴾

یعنی ابلیس (شیطان) نے چار مرتبہ واویلا کیا تھا ایک مرتبہ جب
اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا تھا دوم جب اس کو دھنکار کر اتارا گیا
تیسرا بار جب کہ حبیب خدا سید انبیا ﷺ کی ولادت پاک ہوئی
چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور رونا واویلا کرنایہ شیطانی عمل ہے

نیز حضرت علامہ زینی دھلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت نبویہ میں فرمایا: وَعَنْ عُكْرِمَةَ أَنَّ ابْلِيسَ لَمَّا وَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى تَسَاقُطَ النُّجُومِ قَالَ لِجِنُوْدِهِ قَدْ وُلِدَ الْأَئِلَةَ وَلَذِيْفِنْدَ أَمْرَنَا فَقَالَ لَهُ جِنُوْدِهِ لَوْذَهَبْتَ فَخَبَّلْتَهُ فَلَمَّا دَنِيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللَّهُ جِبْرِيلَ فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ رَكْضَةً وَقَعَ فِي عَدَنَ۔

﴿ضیاء النبی - ص ۶۵ جلد ۳﴾

سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ جب رحمۃ للعابین ﷺ کی ولادت پاک ہوئی اور شیطان نے دیکھا کہ ستارے ٹوٹ کر آرہے ہیں تو شیطان نے اپنے لشکر کو کہا آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ ہمارا کام درہم برہم کر دے گا تو شیطان کے لشکر نے کہا اے ہمارے سردار تو جا کر اس بچے کو اچک لے اور جب شیطان اس نیت سے جبیب خدا ﷺ کے قریب گیا تو جبریل علیہ السلام نے ایسا کھلا مارا کہ وہ لڑتا ہوا عدن

بُلْدَن میں جاگر۔

دعاء ہے اللہ تعالیٰ سب کو نظر بصیرت عطا کرنے اور وہ دیکھیں غور کریں تاکہ اپنی آخرت خراب نہ کر بیٹھیں۔

(۵)

شارح صحیح مسلم علامہ نووی کے استاد محترم امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا أُبْتُدِعُ فِي زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ
فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَإِظْهَارِ الرِّزْيَةِ
وَالسُّرُورِ فَإِنَّ ذَالِكَ مَعْ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْسَانِ
لِلْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ بِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلٍ ذَالِكَ وَشُكْرُ
اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ إِبْجَادِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَرْسَلَهُ

رَحْمَةُ اللّٰهِ لِلْعَالَمِينَ۔

(ضياء النبی - ص ۲۳۷ جلد ۲)

یعنی جو اچھی چیزیں جاری کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہمارے زمانے میں میلاد پاک کے دن ہر سال صدقات و خیرات کے کام کئے جاتے ہیں اور اپنے گھروں اور کوچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے اس میں باوجود اس کے کہ فقر اور مساکین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے یہ کام حبیب خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور یہ شکر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا کر کے ہم پر احسان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب جو کہ سب جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔

⑥

علامہ ابن الجوزی نے فرمایا: قَالَ أَبْنُ الْجُوزِيِّ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَالِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٍ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔

① زرقانی علی المواحب - ص ۲۱۳۸ ② ضياء النبی - ص ۳۸

علامہ ابن جوزی نے فرمایا میلاد پاک کا خاصہ ہے کہ اس سال میں
امن و امان رہتا ہے اور مراد و مقصود حاصل ہونے کی جلدی خوشخبری ہے

4

سیدنا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک:

**فَيَسْتَحِبُ لَنَا أَيْضًا اظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلَدِهِ
بِالْأَجْتِمَاعِ وَاطْعَامِ الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَالِكَ مِنْ وُجُوهِ
الْقُرْبَاتِ وَالْمُسَرَّاتِ۔** (اثبات المولد والقيام - ص ۱۲)

ہمارے لئے منتخب ہے کہ ہم جبیب خدا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ پر شکر بجالائیں اجتماع (جلسہ جلوس) اور کھانا کھلانے سے اور جو کام بھی ثواب اور اظہار خوشی کے طور ہوں۔

امام اہلسنت مجددین وملت علیحضرت مولا نا شاہ احمد رضا
خانصاحب قدس سرہ نے اپنی تصنیف اقامۃ القيامتہ میں پچاس کے
قریب فنول علماء و مشائخ کے فتاویٰ اور اقوال مبارکہ لکھے ہیں جن میں
سے چند پیش خدمت ہیں۔

⑧

سیدنا سید جعفر بربن نجی قدس سرہ نے فرمایا:

قَدْ أَسْتَخِسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ الشَّرِيفَةِ الائِمَّةِ
دِرَايَةً وَرَوَايَةً فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةَ مَرَامِهِ وَمَرْمَاهُ۔

﴿اقامة القيمة - ص ۱۰﴾

بیشک قیام کرنا نبی اکرم ﷺ کے ذکر ولادت مبارکہ کے وقت اسے
ستحسن جانا ہے درائن وروائت کے اماموں نے اور طوبی ﴿جنت﴾
کی بشارت ہے اس شخص کے لئے جس کی غایت مراد حبیب خدا
رحمۃ للعالمین ﷺ کی تعظیم ہو۔

⑨

فقیہہ محمدث امام اجل سراج العلماء مولانا عبد اللہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا: توارثہ الائمه الاعلام واقرہ الائمه والحكام
من غیر نکیر منکرو رذراہ ولہذا کان حسناؤ من

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا يَسْتَحِقُ التَّعْظِيمُ غَيْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَكُفَى أثْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْهُ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
 حَسَنٌ۔ (اقامة القيمة - ص ۱۳)

ولادت مصطفیٰ ﷺ کے ذکر کے وقت قیام کرنایہ مشہور اماموں میں بطور توارث چلا آتا ہے اور اسے ائمہ کرام اور احکام اسلام نے برقرار رکھا اور کسی نے اس کا نہ رد کیا نہ انکار لہذا یہ مستحب ٹھہرا اور حبیب خدا ﷺ کے علاوہ اور کون تعظیم کا حقدار ہے اور سیدنا ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کافی ہے کہ جس چیز کو مسلمان پسند کریں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔

(۱۰)

حضرت مولانا محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ نے فرمایا:

نَعَمْ أَصْلُ ذِكْرِ الْمَوْلِدِ التَّشْرِيفِ وَسَمَاعِهِ سُنْتَةُ
 وَبِهِذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الْمَجْمُوعَةِ بُذْعَةٌ حَسَنَةٌ مُسْتَحْبَةٌ

وَفَضْيْلَةُ عَظِيمَةٌ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا جَاءَ لَهُ
 فِي أَثْرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ
 مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ
 وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ زَمَانِ السَّلَفِ إِلَى الْآنَ مِنْ أَهْلِ
 الْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ كُلُّهُمْ رَأَوْهُ حَسَنًا بِلَا تُقْضَانِ فَلَا
 يُذَكِّرُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَالِكَ إِلَّا مَا نَعْلَمُ الْغَيْرُ
 وَالْإِحْسَانِ وَذَالِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ.

﴿اقامة القيمة - ص ۱۸﴾

ہاں ہاں اصل میلاد شریف کا ذکر میلاد شریف کا سننایہ سنت ہے اور
 مروجہ کیفیت کے ساتھ میلاد شریف کرنا یہ بدعت حسنہ ہے یہ مستحب
 ہے فضیلت عظیمه ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقبول و منظور ہے جیسے کہ
 سیدنا عبد اللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں ہے
 جس چیز کو مسلمان اچھا جائیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی
 ہے اور مسلمان سلف و خلف اہل علم و عرفان سب کے سب اس میلاد

پاک کو جائز اور اچھا جانتے ہیں اس میں کسی قسم کا نقص نہیں۔ لہذا جو شخص اس کا انکار کرے اور اس کو منع کرے وہ خیر کو منع کرنے والا ہے اور خیر کو منع کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔

(11)

حضرت مولانا احمد جلیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
الْمُضْطَفِي نَعَمْ ذِكْرُ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمُغْبَرَتِهِ وَخُلُقِّهِ وَالْخَضُورُ لِسَمَاعِهِ
وَتَزْيِينُ الْمَكَانِ وَرَشُّ مَاءِ الْوَرْدِ وَالْبُخُورِ
بِالْغُودِ وَتَعْبِينُ الْيَوْمِ وَالْقِيَامِ عِنْذَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاطْعَامُ الطَّعَامِ وَتَقْسِيمُ
الْتَّمْرِ وَقِرَاءَةُ شَيْئٍ مِّنَ الْقُرْآنِ كُلُّهَا مُسْتَحْبَةٌ بِلَا
شَكٍّ وَرَبِّبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالْغَيْبِ۔

(اقامة القيمة - ص ۱۹)

حمد و صلاة و سلام کے بعد ہاں ہاں نبی اکرم ﷺ کی ولادت پاک کا ذکر اور معجزات مبارکہ اور حلیہ مبارکہ کا ذکر کرنا اور میلاد پاک سننے کے لئے حاضر ہونا مکان کی آرائش کرنا گلاب چھڑ کرنا اگر بقی سلگانا دن مقرر کرنا نبی اکرم ﷺ کے ذکر میلاد پر کھڑا ہونا لوگوں کو کھانا کھلانا کھجوروں کا تقسیم کرنا قرآن پاک پڑھنا یہ سارے کام مستحب ہیں ان میں ریب اور شک کی گنجائش ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔

(۱۲)

حضرت علامہ مولانا محمد صالح لکھتے ہیں:

أَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَرَبِ
وَالْمِصْرِ وَالشَّامِ وَالرُّومِ وَالْأَنْدُلُسِ وَجَمِيعِ
بِلَادِ الْإِسْلَامِ مُجْتَمِعٌ وَمُتَفْقِيْ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ
وَاسْتِخْسَانِهِ۔

﴿اقامة القيمة - ص ۱۹﴾

نبی اکرم ﷺ کی امت کیا عرب کیا مصر کیا شام اور روم اور اندرس اور اسلامی ممالک سب کا اجتماع اور اتفاق ہے کہ میلاد مصطفیٰ ﷺ

بُشِّرٌ مُتَّخِبٌ اور مُسْتَخِنٌ ہے۔

(۱۳)

حضرت علامہ مولانا علی شامی نے فرمایا:

الْفَ فِي ذَالِكَ الْعُلَمَاءُ وَحَثُّوا عَلَىٰ فِعْلِهِ
فَقَالُوا لَا يُنْكِرُهَا إِلَّا مُبْتَدِعٌ فَعَلَىٰ حَاكِمِ الشَّرِيعَةِ
أَنْ يُعَزِّرَهُ۔

﴿اقامة القيمة - ص ۱۹﴾

نبی اکرم ﷺ کے میلاد پاک پر علمائے کرام نے کتابیں لکھیں اور
اس میلاد شریف کرنے پر رغبت دلائی اور فرمایا میلاد مصطفیٰ ﷺ کا
انکار کرنے والا بد مذہب ہے حاکم شریعت پر لازم ہے کہ ایسے منکر کو
مزادے۔

(۱۴)

اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر
کی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک:

مترتب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں

بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف

اٹھاتا ہوں ۔ ﴿فَيُصْلِهِ ۖ هُفْتَ مُسْكَنٍ﴾ ص ۹

(۱۵)

نواب صدیق حسن بھوپالی الحدیث کا قول:

سو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سنکر فرحت حاصل نہ ہو اور

شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں ۔

﴿الشَّمَامَةُ الْعَنْبَرِيَّةُ﴾ ص ۱۲

(۱۶)

دہلی کے بڑے پیر حضرت خواجہ زید فاروقی از ہری رحمۃ اللہ علیہ کا
قول مبارک:

جو شخص میلاد شریف نہیں کرتا تھا اس مبارک محقق میں شریک

نہیں ہوتا آپ ﴿شاہ ابوالحیر﴾ کو اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں

ہوئی ایسے افراد بلکہ ثابت آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے

ساتھ محبت سے ملتے تھے البتہ آپ کو ان لوگوں سے نفرت تھی جو

حفل مبارک کے انعقاد کو برا کہتے ہیں آپ ان لوگوں کو بد عقیدہ کہتے تھے اور ایسے افراد سے آپ ہمیں ملتے تھے۔

﴿مقامات خیر﴾ ص ۳۹۲

اور حق بھی ہے کیونکہ نہ کر دن چیز سے دیگر است و منع کر دن
چیز سے دیگر

﴿واقعات﴾

واقعہ

نبی رحمت ﷺ کے میلاد پاک پر اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا
مندرجہ ذیل سے اندازہ کریں۔

جب اللہ تعالیٰ کے حبیب رحمۃ اللعائیین ﷺ کی ولادت مبارکہ ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا یہ تین جھنڈے لے جاؤ ایک جھنڈا
مشرق میں گاڑ دو ایک مغرب میں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر
نصب کر دو۔

چنانچہ شیخ الحمد شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور امام ابن حجر قسطلانی

اور بعض دیگر ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا نبی رحمت ﷺ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا جب چھ ماہ گذرے تو کوئی آنے والا آیا اور مجھے خوشخبری دی اے آمنہ تیرے شکم پاک میں وہ ہے جو خیر العالمین ﷺ سب جہانوں سے افضل ہے جب اس کی ولادت ہوتا تو اس کا نام محمد رکھنا پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے سفید رنگ کے پرندے دیکھے جن کی چونچیں زمرد کی تھیں اور ان کے پریا قوت کے تھے اور میں نے ہوا میں کچھ مردا اور عورتیں دیکھیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے ابریق تھے نیز اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے تو میں نے مکہ مکرمہ میں ہی دنیا کی مشرق و مغرب کو دیکھ لیا نیز میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں گاڑ دیا ایک مغرب میں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دیا اور جب میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سر سجدہ میں رکھے ہوئے ہے اور انگلی کو اوپر کی طرف اٹھایا ہوا تھا پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا جو کہ آسمان کی طرف سے آیا حتیٰ کہ اس

بادل نے میرے لخت جگر کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے غائب کر دیا اور میں نے آواز سنی کہ ان کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور پھر دریاوں سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ سب کے سب ان کے نام مبارک اور ان کی نعمت پاک اور ان کی صفت و صورت سے واقف ہو جائیں اور جان لیں کہ ان کا نام ما حی شرک کا مثال نے والا رکھا گیا ہے ان کے زمانے میں سب شرک مٹ جائے گا پھر جلدی ہی میرا لخت جگر میرے سامنے موجود تھا۔

۱) مثبت من السنۃ ص ۵۳ ۲) انوار محمدیہ ص ۲۳

واقعہ ۲

جب نور مصطفیٰ ﷺ والدہ ماجدہ کی طرف منتقل ہوا تو مہینہ رجب کا اور رات جمعہ مبارکہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے سب سے بڑے حاکم حضرت رضوان کو حکم دیا کہ جنت کے دروازے کھول دے اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے متعلق حکم ہوا طُوبی لَهَا ثُمَّ طُوبی لَهَا ان کے لئے

جنت ہے ان کے لئے جنت ہے اور اس دن دنیا بھر کے بہت منہ کے بل گر گئے اور قریش مکہ اس سال قحط سالی اور نہایت تنگدستی میں تھے تو حبیب خدا علیہ السلام کی برکت سے خوشحالی آگئی ساری قحط سالی ختم ہو گئی حتیٰ کہ اس سال کا نام سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْأَبْتِهَاج مشہور ہو گیا۔

① مواہب لدنیہ ② ما ثبت من السنة - ص ۱۵ ۳۱، ۲۰ انوار محمدیہ - ص

واقعہ ۳

اس دن مشرق کے چرند پرند مغرب کی طرف بشارتیں اور مبارکیں دینے مغرب کو دوڑے جاری ہے تھے اور مغرب کے دھوش و طیور مشرق کو مبارکیں دینے جاری ہے تھے۔

① مواہب لدنیہ - ② انوار محمدیہ - ص ۲۲

واقعہ ۴

دنیا میں لوگ بچے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اظہار محبت یوں فرمایا کہ اس سال دنیا بھر کی عورتوں کو لڑکے عطا ہوئے۔ چنانچہ مواہب لدنیہ میں ہے:

وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ
الْأَرْضِ أَنْ يَحْمِلْنَ ذِكْرَهُ كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

① مواهب الدنيا۔ ② انوار محمدیہ۔ ص ۲۲

یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے لئے فرمایا کہ سب کو لڑکے
پیدا ہوں میرے حبیب کے اکرام کی خاطر صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَعَلَیْہِ
وَاخْصَائِیْہِ وَسَلَّمَ -

واقعہ ۵

ولادت مصطفیٰ ﷺ کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان کے
درمیان دیباج ہریشم کا فرش بچھایا گیا نیز حبیب خدا ﷺ کی
والدہ ماجدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے
پردے ہٹ گئے تو میں نے تم جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں ایک
مغرب میں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔

① مواهب الدنيا۔ ② ما ثبت من السنۃ۔ ص ۵۳ ③ انوار محمدیہ۔ ص ۲۳

وَاقِعٌ

والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب میرے لخت جگر کی
ولادت مبارکہ ہوئی وَادَّا بِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَذْرِ وَرِيْحَةُ
يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ الْأَذْفَرِ۔

① مواہب لدنیہ۔ ② انوار محمدیہ۔ ص ۲۲

یعنی میں نے جب اپنے لخت جگر کو وقت ولادت دیکھا تو یوں تھا جیسے
چودھویں کا چاند ہے اور اعلیٰ قسم کی کستوری کی سی خوشبو مہک رہی تھی۔

اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رحمت
کائنات ﷺ کی ولادت پاک ہوئی تو حضرت رضوان نے کان مبارک
میں کہا اے اللہ کے حبیب آپ کو خوشخبری ہو کہ ہر نبی کا علم آپ کو عنایت
ہوا لہذا آپ کا علم سب نبیوں کے علم سے زیادہ ہے اور آپ کا دل
مبارک سب سے اشجاع یعنی بہادر ہے۔

① مواہب لدنیہ۔ ② انوار محمدیہ۔ ص ۲۲

واقعہ ۷

عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ نے بیان کیا جب حضرت محمد ﷺ کی ولادت مبارکہ کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کا گھر نور سے جگ گارہا تھا نیز میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے بالکل قریب آگئے ہیں حتیٰ مجھے گمان ہوا کہ ستارے میرے اوپر گرنے والے ہیں۔ ① مواہب الدنیہ۔ ② انوار محمدیہ۔ ص ۲۵

واقعہ ۸

سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی ولادت مبارکہ ہوئی میں اس وقت سات یا آٹھ سال کا تھا میں اس وقت اچھی طرح سمجھتا تھا میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک یہودی زور و شور سے چیخ رہا تھا اس نے سارے یہودی اکٹھے کر لئے ان یہودیوں نے پوچھا تھے کیا ہو گیا ہے تو اس یہودی نے کہا آج وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جس نے محمد کی ولادت پر طلوع ہونا تھا۔

① مواہب الدنیہ۔ ② انوار محمدیہ۔ ص ۲۶

نیزام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ہے: قریش مکہ کو اکٹھا کر ایک یہودی جو کہ مکہ مکرمہ میں ہی رہتا تھا اس نے قریش مکہ کے پوچھا کہ تمہارے گھروں میں کسی کے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قریش مکہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں اس یہودی نے کہا وہ کیھوتلاش کرو کیونکہ آج کی رات اس امت کے نبی کی پیدائش ہو چکی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے نیچے مہربوت ہے تھوڑی دیر بعد قریش آئے اور بتایا کہ عبد اللہ کے ہاں جو کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یہودی نے کہا مجھے لے چلو اور مجھے وہ بچہ دکھاؤ اور جب اس یہودی نے وہ بچہ دیکھا تو غش کھا کر گر گیا اور جب ہوش میں آیا تو بولا ہائے افسوس اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی اور کہا اے قریش اس نیچے کی مشرق تا مغرب شہرت ہو گی۔

۱) مواصب الدنیا۔ ۲) انوار محمدیہ۔ ص ۲۶

۳) شامامہ غنبریہ۔ ص ۸ ۴) ما ثبت من السنۃ۔ ص ۵۳

وَاقِعَهُ ۙ

فارس میں لوگ آتش پرست تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے انہوں نے آگ جلا رکھی تھی جو کہ ہزار سال تک کبھی بجھی نہ تھی تو جب میلاد پاک کا دن آیا اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی ولادت پاک ہوئی تو وہ ہزار سالہ آگ یکدم بجھ گئی۔ نیز کسری کے ایوانوں، محلوں میں زلزلہ آگیا حتیٰ کہ کسری کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے۔

① مواہب لدنیہ۔ ② انوار محمدیہ۔ ص ۲۶ ③ شامہ عنبریہ۔ ص ۸۶

ان مندرجہ بالا روایات پر وہ حضرات غور کریں جو جھنڈیاں لگانے اور فرش و فروش پر اعتراض کرتے ہیں اگر جھنڈیاں لگانا فرش و فروش کرنا ممنوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ جھنڈے نصب نہ کرواتا اور نہ ہی زمین و آسمان کے درمیان فرش بچھایا جاتا۔

﴿تَسْبِيهٌ﴾ یہ کتاب میں جن کا ذکر اوپر ہوا یہ کوئی عام اور غیر معتبر کتاب میں نہیں ہیں بلکہ ایسی معتبر ہیں کہ غیر مقلدوں کے معتبر عالم نواب صدیق حسن بھوپالی نے کتاب لکھی ہے۔ **الشَّمَاءَةُ الْغَنْبِرِيَّةُ مِنْ**

مَوْلِدُ خَيْرِ الْبَرِّيَّةِ اور انہیں کتابوں سے مواد لیا ہے۔

فَاغْتَبِرُوا إِيَّا أُولَى الْأَبْصَارِ

(اپیل)

اے میرے مسلمان بھائی اے میرے عزیز ذرا غور کر کہ اتنے بڑے
جلیل القدر ائمہ دین علمائے راسخین نے میلاد پاک کے متعلق
ارشادات مبارکہ فرمائے ہیں کیا یہ سب غیر معتبر ہی ہیں اور تو یہی رٹ
گائے جائے کہ فلاں نے لکھا ہے کہ یوں میلاد پاک کرنا بدعت ہے
ناجائز ہے۔

اے میرے عزیز کیا یہی عشق رسول ہے اس کی مثال یوں ہوئی کہ
کسی کا باپ حافظ قرآن تھا اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں میں
اختلاف ہو گیا کہ مولوی صاحب کا باپ حافظ قرآن تھا یا نہیں۔ ایک
آدمی بولا میں اور مولوی صاحب کا باپ فلاں مدرسہ میں فلاں سال
میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں اور فلاں سال ہم فارغ ہوئے تھے دوسرا
بولا میں نے ان کے پچھے دس سال تراویح پڑھی ہیں وہ بڑے پختہ

حافظ قرآن تھے یوں کرتے کرتے پچاس ساٹھ آدمیوں نے گواہی دی
کہ مولوی صاحب کے والد صاحب حافظ قرآن تھے مگر ایک آدمی بولا
میں نے تو کبھی نہیں سناتھا کہ وہ حافظ قرآن تھے مولوی صاحب کہیں
میں تو پچاس آدمیوں کو چھوڑ کر اس ایک کی بات مانوں گا جو یہ کہہ رہا ہے
کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔

ذر اگر بیان میں منه ڈال کر سوچ کر بتائیں کیا یہی محبت کا تقاضے
ہیں یہی حال ان عشق رسول کے دعویداروں کا ہے کہ امام جلال الدین
سیوطی، امام ابن حجر عسقلانی، شیخ الحمد شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، امام نووی کے
استاد امام ابو شامہ، امام سخاوی شاہ احمد سعید دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے
میسیون بڑے ائمہ دین اور علمائے راسخین کتابیں لکھ کر میلاد پاک کے
جاائز و مستحب ہونے کا ثبوت پیش کریں ان میں سے کسی کا اعتبار نہ کیا
جائے اور ایک دو مختلف نظریات والوں نے کہہ دیا یہ بدعت ہے ناجائز
ہے ان کو معتبر مان لیا جائے کیا عشق رسول ﷺ اسی کو کہتے ہیں ایسا

انوکھا عشق انہی لوگوں کو مبارک ہو۔

دوسری اپیل

اے میرے عزیز آپ سے سوال ہے کہ کس وجہ کی بنا پر آپ میلاد پاک کونا جائز و بدعت کہتے ہیں۔

آپ جواب میں کہیں گے جناب ناجائز و بدعت ہونے کی کئی وجہ ہیں ایک یہ کہ اس میں تعمین یوم ہے دوم اس میں تداعی و تشهیر ہے جو کہ شرعاً ممنوع ہے سوم اس میں فضول خرچی ہے اسراف ہے جو کہ ناجائز ہے ممنوع ہے۔

اس پر آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنے اکابر کا دن مناتے ہیں وہاں تعمین یوم بھی ہوتا ہے اخباروں میں اشتہاروں کے ذریعہ خوب تداعی اور تشهیر بھی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن فلاں جگہ جلسہ یادگار ہوگا اور یہ بھی معین کر لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں عالم اور لیڈر بیان کریں گے اور فضول خرچی بھی از حد ہوتی ہے اتنی ٹیوں میں اتنے بلب لگائے جاتے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتا۔

آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے گوجرانوالہ میں ایک جہاد کا نتیجہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی احباب نے بتایا کہ اس میں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کا جہاد والا جھنڈا آؤزیں کیا گیا تھا تو موحدین حضرات جو کہ نبی اکرم ﷺ کے نام پر انگوٹھے چومنے کو بدعت اور ناجائز کہتے ہیں وہ سب قطار درقطار اس جھنڈے کو چومتے اور سروں پر لگاتے منه پر ملتے گذر رہے تھے اور ٹیوں میں اور بلب اتنے آؤزیں تھے کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں گلنے والے کو گناہ مشکل تھا۔

نیز اسی سال ۱۹۴۸ء میں میاں نواز شریف کی سالگردہ کے موقعہ پر غیر مقلدیں کے سیاسی امام ساجد میر نے میاں صاحب کی پیدائش کی خوشی میں کیک کا ٹاچنا نپہر ز نامہ انصاف ۳ جنوری میں ایک تصویر شائع ہوئی ہے جس میں احادیث پروفیسر ساجد میر سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی سالگردہ کا کیک کاٹ رہے ہیں

﴿بِحُوَالِهِ رَضَاَ مَصْطَفِيَ - ص ۲۲﴾

کیا یہ سب جائز ہو گیا آپ جواب دیں گے بھی دنیا میں سب کچھ

چلتا ہے اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں۔ بس سارے فتویٰ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے لئے ہیں ان کے لئے جو کچھ بھی کیا جائے وہ ناجائز و بدعت ہی رہے گا باقی سب ٹھیک ہے یہ ہے انوکھا عشق رسول۔ اگر یہی عشق رسول ہے تو اسے دور ہی سے سلام۔

واقعہ ۱۰

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا میلاد پاک کرنا:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی درمیں میں لکھتے ہیں:

أَخْبَرَنِي سَبِيْدِيُّ الْوَالِدُ قَالَ كُنْتُ أَصْنَعُ فِي أَيَّامِ
 الْمَوْلِدِ طَعَامًا صَلَةً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفْتَحْ لِي سَنَةٌ مِّنَ السِّنِينِ شَيْئًا أَصْنَعُ
 بِهِ طَعَامًا فَلَمْ أَجِدُ إِلَّا حَمَصًا مُقْلِيَا فَقَسَّمْتُهُ بَيْنَ
 النَّاسِ فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ
 هَذِهِ الْحَمَصُ مُتَجَهِّهً حَابِشَاشَا۔ (درمیں - ص ۸۲ حدیث ۲۲)

مجھے میرے والد ماجد شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نے بتایا مجھے میں میلاد پاک کے دنوں میں نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری کی خوشی میں کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا ایک سال مجھے کچھ میسر نہ ہوا کہ جس سے کھانا پکاؤں تو میں نے بھونے ہوئے چنے لئے اور تقسیم کر دیئے تو میں خواب میں حبیب خدا ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہی چنے سید دو عالم ﷺ کے سامنے ہیں اور نبی اکرم ﷺ بڑے ہی خوش ہو رہے ہیں اور بڑے ہشاش بشاش ہیں اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ میلاد پاک کرنا جائز اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی خوشنودی کا باعث ہے اور محبت سے انسان جو کرے وہ قبول ہے۔

واقعہ ۱۱

حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی قدس سرہ بڑے اہتمام سے میلاد پاک کیا کرتے تھے چنانچہ مقاماتِ خیر میں ہے:

کرامت علی خاں نے آگرہ سے میلاد خواں بلاۓ میلاد خوانوں

نے اچھے پیرا یہ سے آنحضرت ﷺ کے مبارک احوال بیان کئے آپ ﷺ نے شاہ ابوالخیرؒ نہایت ادب سے دوز انو جنوب رویہ سر جھکائے آنکھیں بند کئے بیٹھ رہے اس وقت آپ کے بدن مبارک کا ایک حصہ بھی حرکت نہیں کر رہا تھا کانَ عَلَى رَأْسِهِ الْطَّيْرُ کی کیفیت ظاہر و باہر تھی جس وقت حضرت محبوب کبریا ﷺ {بِأَنفُسِنَا هُوَ وَبِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَوْلَادِنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ وَأَحَبَّهُ} کی ولادت شریفہ کا ذکر مبارک ہوا سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کرامت علی خاں کے رفیق نے گلب پاشی کی سب کو عطر لگایا مجرم میں عودہ والا اگر کی بتیاں سلگائی گئیں اور میلاد خوانوں نے ﴿جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لِّجَزَاءٍ وَرَحْمَهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَحَشَرَهُمْ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُمْ﴾ اس مقدس جناب میں ہدیہ سلام پیش کیا۔

جس وقت میلاد خواں ہدیہ پیش کر رہے تھے آپ ﷺ پر بے خودی کی کیفیت طاری تھی آپ کی آنکھوں سے سیل اشک جاری تھا

ہاتھ ناف پر بند ہے ہوئے تھے بے اختیاری کی حالت کے عالم میں آپ کے قدم حرکت کر رہے تھے اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو چلا تھا اگرچہ اس وقت سب پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کیفیت طاری تھی لیکن آپ کی بے خودی نے و پاکوبی نے سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔

﴿مقامات خیر ص ۳۲۲﴾

اس واقعہ کو لکھ کر حضرت زید فاروقی دہلوی لکھتے ہیں افسوس صد افسوس کے ایسی مجذبی و مُرثگی و مُطہر محفل مبارک کو حجاب علم نے بعض افراد کی نظر میں جامعہ تجویز پہنادیا ہے ﴿ان کو ایسی محفل بری لگتی ہے﴾ اور دنیا بھر کی خرابیاں ان کو اس مبارک محفل ﴿میلاد شریف﴾ میں نظر آنے لگی ہیں۔

﴿مقامات خیر ص ۳۲۳﴾

﴿نوت﴾ حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معمولی ہستی نہیں تھے بلکہ وہ صاحب کرامات اور کامل ولی تھے تفصیل کے لئے ”خلفیۃ اللہ“ کا مطالعہ کریں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے محروم لوگوں کو بھی نظر بصیرت عطا کرے

اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی عظمت کی جھلک دیکھ لیں اور ان کی زبانیں ان کے قلم نکتہ چینی اور اعتراضات کی بجائے تحسین کی طرف آ جائیں۔ آ میں

ابوسعید غفرانی

واقعہ ۱۲

دہلی کے بڑے پیر حضرت زید فاروقی از ہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

آپ ﷺ شاہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کیا اور اہل دنیا کو بتا دیا کہ حضرت رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین کی ولادت با سعادت کی خوشی کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے اور مغل شریف کے کیا آداب ہیں۔

﴿آرائش﴾ پھول پتوں کا ایک عمدہ دروازہ چتھی قبر پر بنوایا جاتا تھا اور دوسرا دروازہ خانقاہ شریف کے دروازے کے باہر اور ان دونوں دروازوں کے مابین خوبصورت جھنڈیوں کا جال، خانقاہ شریف کے اندر کھلے حصہ میں بلیوں کا جال ایک بلی دوسری بلی سے چھٹ سے چھٹ کم فاصلے پر رہتی تھی بلیوں پر نگین کپڑا پیٹا جاتا تھا ایک پر سرخ ایک پر

بُنْدُک سبز اور پھر ان پر عمدہ لچکا، سبز پر سنہری اور سرخ پر دو پہلی اور بیلوں میں نہایت عمدہ جھاڑ آؤزیں ہوتے تھے ہر جھاڑ میں عمدہ موم کی بتیاں چھوٹے بڑے تقریباً پچاس جھاڑ ہوتے تھے اور ان کے ماہین رنگ رنگ کے عمدہ قمیقے اور دیواروں پر نہایت سلیقے سے عمدہ پھول پتے آؤزیں ہوتے تھے ماہ مبارک کی گیارہ کی صبح سے تقریباً آٹھ ماہی اس کام کو شام تک سرانجام پہنچاتے تھے بارہ من نہایت عمدہ موتی چور لڈو بنوائے جاتے تھے۔

﴿مَقَامَاتُ خَيْرٍ﴾ ص ۳۹۲

اس واقعہ کو پڑھ کروہ حضرات ذرا اگر یہاں میں منہ ڈال کر سوچیں جو آج کل کی مسیلا دشیریف کی محفلوں کو دیکھ کر فضول خرچی کافتوی لگادیتے ہیں لو جی یہ پیسہ دین کے کسی اور کام میں لگایا جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا کیا ایسے حضرات خدا تعالیٰ کو بھی مشورہ دیں گے کہ یا اللہ تو نے قربانی کا حکم دے کر کر دڑوں روپے ضائع کر دیئے ہیں یہی پیسہ اگر کسی دین کے کام میں لگ جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔

ایسے ہی فضول خرچی کافتوی لگانے والوں کا واقعہ:

واقعہ ۱۳

سیدی محمد اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی بڑی بڑی دھوم دھام سے اور بڑے ذوق و شوق سے میلاد پاک کیا کرتے تھے ایک دفعہ جب کہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ مسجد کی دیواروں پر سلیقه اور طریقہ سے قندیلیں لگائیں جائیں جب وہ احباب قندیلیں لگا چکے تو وہاں پر ایک مولوی صاحب آدھمکے اور بولنا شروع کر دیا ساتھ ہی یہ آیت مبارکہ پڑھ دی: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ - یعنی فضول خرچی مت کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔

حضرت خواجہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے بھی سن لیا اور مولوی صاحب کو پاس بلا کر فرمایا مولوی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب بولے جناب ایک قندیل کافی ہے اتنی قندیلیں لگائی جائی ہیں کیا یہ فضول خرچی نہیں۔

حضرت صاحب نے فرمایا اچھا مولوی صاحب اگر یہ فضول خرچی ہے تو ان کو بجھا دو یہ سن کر مولوی بڑا خوش ہوا اور دیوار پر چڑھ کر ایک قندیل کو پھونک لگائی تو وہ بجھ گئی پھر دوسری قندیل کے پاس جا کر پھونک لگائی تو وہ بجھ گئی لیکن پہلی قندیل خود بخود روشن ہو گئی مولوی صاحب پھونک نکے مار مار کر قندیلوں کو بجھائے جا رہے ہیں اور پیچھے سے قندیلیں خود بخود روشن ہو رہی ہیں یہ منتظر دیکھ کر حضرت مسکرائے اور فرمایا مولوی جی یہ عشق رسول کی قندیلیں ہیں یہ پھونکوں سے نہیں بجھ سکتیں۔

﴿مسکلہ﴾

بعض اکابر کا ارشاد مبارک ہے: لَا خَيْرٌ فِي الْأَسْرَافِ وَلَا إِسْرَافٌ فِي الْخَيْرِ یعنی فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں لیکن نیک کاموں میں فضول خرچی ہے، ہی نہیں یعنی نیک کاموں میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی نہیں کہلاتا۔

وَاقْعَدْ ۝

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جب

مکہ مکر مہ حاضر ہوا اور وہاں جس مکان میں سید دو عالم ﷺ کی ولادت ہے مبارکہ ہوئی وہاں میلاد پاک کے دن لوگ اس مکان شریف میں اکٹھے ہوئے میں نے دیکھا کہ لوگ رحمت دو عالم ﷺ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ولادت مبارکہ کے وقت جو واقعات ظاہر ہوئے ان کا ذکر کرتے تھے۔

فَرَأَيْتُ أَنُوَارًا سَطَعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا أَقُولُ أَنِّي
أَذْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الْجَسَدِ وَلَا أَقُولُ أَنِّي أَذْرَكْتُهَا
بِبَصَرِ الرُّوحِ فَقَطُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ۔
یعنی میں نے وہاں نور دیکھے جو کہ اچانک بلند ہوئے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ نور سر کی آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے پھر میں نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان فرشتوں کے ہیں جو کہ ایسی محفلوں پر موقل ہیں نیز میں نے دیکھا کہ ملائکہ کے انوار کے ساتھ رحمت کے انوار بھی شامل ہو گئے ہیں۔

﴿فِيوضِ الْحَرَمَنِ - ص ۸۰﴾

﴿تنبیہ﴾ اس واقعہ مبارکہ سے ثابت ہوا میلاد پاک کی ایسی محفلوں میں فرشتے شریک ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ رحمت کے انوار بھی شامل ہو جاتے ہیں۔
 ﴿ابوسعید غفرلہ﴾

واقعہ ۱۵۱

جانندھر میں ایک عالم دین حکیم فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچ عاشق رسول ﷺ تھے جن کا تعارف محمد عبد الجید صاحب صدقی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے اپنی کتاب سیرت النبی بعد از وصال میں لکھا ہے جو مندرجہ ذیل ہے:
 مشرقی پنجاب ﴿بھارت﴾ کے ضلع جاندھر کی تحصیل نکودر میں ایک بہت پرانا قصبہ مہد پور ہے جہاں حضرت حسن رسول نما دہلوی کی اولاد میں سے ایک خاندان آباد تھا اس گھرانے کے ایک بزرگ حکیم فضل محمد جاندھری تھے جن کا ۹۵ برس کی عمر پر ۱۹۳۹ء میں انتقال ہوا پیشہ کے اعتبار سے حکیم تھے وہ بھی شاہی حکیم اور با فراغت زندگی گزارتے تھے حکیم اجمل خاں کے ہم درس تھے دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں

卷之三

— 1 —

حاصل کی اس شہرہ آفاق درسگاہ کے اوّلین تلامذہ میں سے تھے۔

مولانا اشرف علی تھانوی کے ہم سبق تھے اور حضرت مولانا محمد قاسم

ناتوی کے شاگرد رشید تھے لیکن مسلکاً دیوبندی نہ تھے آپ کا

مترب عشق و محبت رسول ﷺ اور عالم یہ تھا کہ آپ ﷺ کا نام

نامی اسم گرامی سنتے ہی رفت طاری ہو جاتی تھی اور زار و قطار رو نے لگ

جاتے تھے تقریباً ۶۵ برس کی عمر میں فالج کا حملہ ہوا اور اطبا زندگی سے

ماپوس ہو گئے غشی کی کیفیت طاری تھی اور چیمارداروں کو یقین ہو گیا تھا کہ

آپ کے چل چلاو کا وقت قریب آن پہنچا ہے کہ اچانک رات کے

تیرے پھر بے ہوش وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور اسی عالم میں آپ

چلائے یا حضرت ﷺ یہ میرا یادوں ہے آپ کے اعزہ ولواحقین جو

آپ کے گرد جمع تھے اس جملہ پر حیرت زدہ تھے کہ حکیم صاحب نے اینی

مفلوج ٹانگ کو بڑی تیزی سے سمیٹا اور فوراً یوں ہی بھلے چینگے ہو کر انہوں

بیٹھے جسے کبھی بیمار ہی نہ تھے اور بتا کہ ابھی ابھی خواب میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسالم و تشریف لائے تھے آپ نے دست مبارک میرے جسم پر پھیرا اور

جب آپ کا دست مبارک میرے پاؤں کے قریب پہنچا تو میں نے فرط ادب سے پاؤں سیکڑ لیا چنانچہ پاؤں میں حفیف سالنگ باقی عمر موجود رہا اور حکیم صاحب اس واقعہ کے تقریباً تیس سال بعد تک تندرتی کے ساتھ زندہ سلامت رہے۔

اس واقعہ کے چشم دیدگواہ آج بھی زندہ ہیں اور حضرت رسول ﷺ کے اس تصرف باطنی کے عینی گواہ ہیں فارسی کے مشہور شاعر گرامی نے حکیم کی شان میں فرمایا تھا:

زمہد تا الح عشق رسول کریم حکیم فضل محمد حکیم ابن حکیم اور یہ شعر بھی گرامی صاحب کا ہے جو حکیم فضل محمد صاحب کی جلالت شان کو خرائج عقیدت و تحسین ہے

﴿سیرت النبی - ص ۲۲۷، از محمد عبد المجید صدیقی ایڈ و کیٹ ہائی کورٹ لاہور﴾
یہ جو صدیقی صاحب ایڈ و کیٹ مصنف سیرت النبی ﷺ نے لکھا ہے کہ حضرت حکیم فضل محمد صاحب جالندھری پڑھے ہوئے

دارالعلوم دیوبند کے تھے مگر وہ مسلکاً دیوبندی نہ تھے بلکہ ان کا مشرب عشق رسول تھا حبیب خدا علیہ السلام کا نام نامی سنتے ہی ان پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی اس راز سے کہ وہ دیوبند کا مسلک چھوڑ کر سچے عاشق رسول علیہ السلام بن گئے تھے ان کے ایک مرید بابا ابراہیم صاحب جالندھری نے پردہ اٹھایا ہے۔

جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو بابا ابراہیم صاحب جالندھر سے بھرت کر کے پاکستان کے شہر لاکپور (فصل آباد) میں آ کر مقیم ہو گئے تھے ان کی رہائش گاہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے قریب ہی تھی بڑی محبت والے تھے جامعہ رضویہ کے دارالافتاء میں فقیر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور بڑی محبت بھری باتیں سنایا کرتے تھے بابا ابراہیم صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حکیم فضل محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند تھے دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد جالندھر میں مطب بنالیا تھا اور جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک قریب آتا عقیدت مند لوگ حاضری کی

تیاری کرتے اور حکیم صاحب سے کہتے حکیم صاحب اجمیر شریف چلیں لگئے تو حکیم صاحب فرماتے وہاں کیا رکھا ہے وہاں شرک ہوتا بدعتیں ہوتی ہیں ان پیروں نے دوکانداری بنارکھی ہے لیکن ایک سال احباب کے کہنے پر تیار ہو، ہی گئے اور احباب کے ساتھ اجمیر شریف کے سفر پر روانہ ہوئے گھر سے چلے تو وہ ہی تھے میل گاڑی پر سوار ہوئے تو وہ ہی تھے اجمیر شریف پہنچے تو وہ ہی تھے آدمی رات ہوئی تو خواجہ غریب نواز کی برکت سے ان کا کاشا ہی بدل گیا اٹھئے تو کچھ اور تھے واپس آئے کسی اللہ والے کے مرید ہوئے پھر وہ خود پیر بنے ان کے ہزاروں کی تعداد میں مرید ہیں جن میں سے ایک میں بھی ہوں پھر حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن چیزوں کو بدعت کہا کرتے تھے ان کو بڑے شوق سے بجالاتے خاص کر اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کا مسیلا دمبارک بڑی دھوم دھام سے مناتے ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ربیع الاول شریف کو جلسہ ہوتا دور دور سے نعمت خواں اور علماء کرام بلائے جاتے تھے اور جب ربیع الاول شریف کی بارہویں رات ہوئی رات بھر جلسہ ہوتا اور سحری کے وقت جو کہ رسول اللہ ﷺ کی

ولادت پاک کا وقت ہے اس وقت ہمارے پیر و مرشد حضرت حکیم حنفیؒ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسع احباب و مریدین کھڑے ہو کر صلاۃ وسلام پڑھتے تھے زال بعد دعاء ہوتی پھر نماز فجر کے بعد گھوڑوں بکھیوں پر جلوس نکلتا جو کہ جالندھر شہر کا چکر لگاتا۔

﴿عجب واقعہ﴾

بابا ابراہیم صاحب جالندھری نے بتایا کہ حضرت حکیم فضل محمد صاحب کی مسجد کی ڈیورٹھی پر گنبد بنے ہوئے تھے اور حضرت کے مریدوں میں سے ایک بابا شیر محمد صاحب تھے جو کہ بالکل سیدھے سادھے اور بھولے بھالے تھے ایک سال جبکہ ۱۲ ربیع الاول شریف کی رات سحری کے وقت کھڑے ہو کر صلاۃ وسلام پڑھ رہے تھے بابا شیر محمد نے ملکنکی لگا کر گنبدوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا پھر جب نماز فجر کے بعد جلوس نکلا اور جلوس ختم ہوا اور لوگ مسجد میں نماز کے لئے آئے تو بابا شیر محمد صاحب بولے حضرت جی کیا آپ نے اللہ کے جبیب کی زیارت کی تھی اس پر حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا بابا کیا تو نے

زیارت کی تھی تو بابا صاحب گویا ہوئے لو جی جب ہم کھڑے ہو کر
صلوٰۃ وسلام پڑھ رہے تھے گبند کے نیچے تخت تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے
رسول اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ سنکر حضرت نے فرمایا
بابا اگر تو نے دیدار کر لیا تو گویا سب نے دیدار کر لیا۔ الحمد للہ رب العالمین

﴿ مسئلہ ﴾ یہ ضروری نہیں کہ جہاں بھی مسیاد پاک ہو وہاں تاجدار
مدینہ رحمت کائنات ﷺ ضرور جسم عضری کے ساتھ جلوہ گر ہوں لیکن
اگر کرم کریں اور جلوہ گر ہوں تو کوئی ان کو روک بھی نہیں سکتا اس کے
متعلق کتاب حاضر وناضر رسول پڑھ کر دیکھیں۔

﴿ کرم پر کرم ﴾

بابا ابراہیم صاحب جالندھری نے بتایا کہ اس بابا شیر محمد پر یہ کرم ہوا
کہ ایک دن وہ حضرت حکیم صاحب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں
حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں حضرت نے پوچھا
کیوں جا رہے ہو تو عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے جبیب نے بلایا ہے چونکہ
بابا شیر محمد صاحب بالکل سید ہے آدمی تھے اور سید ہے آدمی کی بات بھی

دکھ سیدھی ہوتی ہے اس لئے حضرت سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے آپ نے کتنے پوچھا بابا تیرے گھر میں کیا کچھ ہے بابا شیر محمد صاحب بتا رہے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں تین چار پائیاں بھی ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے میں بابا شیر محمد کی بیوی بھی حاضر ہو گئی اور عرض گزار ہوئی حضور میں نے بھی مدینہ پاک جانا ہے حضرت نے فرمایا توں نے کیوں جانا ہے وہ بولی میرا خاوند جارہا ہے میں کیوں نہ جاؤں۔ یہ سن کر حضرت حیران ہو گئے اور بعض مریدوں سے فرمایا بابا شیر محمد کے گھر سے سامان اٹھا لاؤ تو وہ سامان آگیا اس کو بیچا تو اتنے پیسے دستیاب ہوئے جن سے تیاری کے بعد بمبئی تک ریل گاڑی کے اٹھائی ٹکٹ خریدے گئے اور حضرت اسٹیشن پر بمع احباب تشریف لے گئے اور بابا شیر محمد کو بمع اس کی فیصلی (اکیک بیوی ایک بیٹی) کو گاڑی پر بیٹھا دیا اور فرمایا بابا جی ایک روپیہ بچا ہے یہ لے لو بابا جی بولے حضرت میں نے کیا کرنا ہے جبکہ مجھے ٹکٹ مل گئے ہیں حضرت نے فرمایا تیرے ساتھ تیری پیچی ہے اسے راستہ میں کچھ کھلانا پلانا ہو گا بابا شیر محمد بولا یہ روپیہ میری چادر کی گردھ میں باندھ دو

گاڑی روانہ ہو گئی بابا شیر محمد بمع اپنی فیملی بمبئی کی جہاز ران کمپنی کے مسافر خانہ میں بیٹھ گئے ادھر احمد آباد کے ایک سینٹھ نے اپنا اور اپنی بیوی کا بھری جہاز کا ٹکٹ لیا ہوا تھا اسے پچھے سے تار موصول ہوا کہ آپ کا فلاں عزیز قریب المرگ ہے اس نے سوچا میں یہ ٹکٹ کسی اور کو دیدوں وہ مسافر خانہ میں آیا بابا شیر محمد کو دیکھا پوچھا بابا جی کہاں جانا ہے بابا جی نے کہا ہم نے مدینہ پاک جانا ہے سینٹھ نے پوچھا ٹکٹ لے لیا ہے؟ تو بابا شیر محمد اسے ریل گاڑی کے ٹکٹ دکھار ہاتھا یہ میرے پاس ٹکٹ ہیں سینٹھ یہ سن کر نہسا اور اسے آدھا ٹکٹ اور لے کر تینوں کو بھری جہاز پر سوار کر کے واپس ہو گیا اور بابا شیر محمد رحمت کائنات ﷺ کے بلا وے پر حج کر کے مدینہ منورہ حاضری دے کر بمع بیوی بھی واپس آگیا۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملا:

گر تو سنگ و صخری و مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی
حکیم فضل محمد صاحب عالم تھے فاضل تھے مگر عاشق رسول اس

وقت بنے جب خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی نظر کرم ہوئی پھر وہی میلاد شریف جسے بدعت و ناجائز کہا کرتے تھے بڑے ذوق و شوق سے کرنے لگ گئے اور گوہر مراد سے جھولیاں خود بھی بھریں اور اپنے احباب و مریدین کی بھی بھر دیں چچ پوچھوتا نسبت بڑی بات ہے۔

واقعہ ۱۶

یہ فقیر حیر ابوسعید غفرلہ جب محلہ محمد پورہ کی جامع مسجد گلزار مدینہ کی خطابت پر معین ہوا تو خود ہی میلاد پاک کا اہتمام کرتا تھا مثلاً بس کا کرایہ پر حاصل کرنا، لاڈ پسکر کا انتظام کرنا نیز دارالعلوم امینیہ رضویہ کے طلبہ بڑے شوق سے جھنڈیاں لگاتے کردوں کو سجا تے تھے محمد پورہ میں ایک شاہ صاحب بنام سید عنایت اللہ شاہ صاحب چکوال کے رہنے والے جو کہ کوہ نورمل میں آفسر تھے انہوں نے محمد پورہ کی مسجد والی گلی میں مکان کرایہ پر لیا ہوا تھا وہ بڑے شوق سے قرآن پاک کا درس سنا کرتے تھے میلاد پاک کے جلوس کے دو، تین دن بعد وہ مسجد میں تشریف لائے درس سنا اور جب نمازی چلے گئے تو وہ میرے پاس آ کر

دکھ بیٹھ گئے اور فرمایا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے میں وہ آپ کو سنا نا۔
 چاہتا ہوں میں نے کہا سنا یئے : شاہ صاحب نے فرمایا میں چکوال کا
 رہنے والا ہوں ہمارے گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے میں
 نے خواب میں دیکھا کہ دارالعلوم امینیہ رضویہ کے طلبہ جھنڈیاں لگا
 رہے ہیں اور آپ بھی وہاں موجود ہیں میں نے پوچھا مفتی صاحب یہ
 جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہیں آپ نے کہا حبیب خدارحمۃ للعالمین
 تشریف لانے والے ہیں ہم حضور کے استقبال کے لئے جھنڈیاں لگا
 رہے ہیں اتنے میں شور برپا ہوا کہ سرکار رحمۃ للعالمین تشریف لائے
 ہیں امت کے والی تشریف لائے ہیں ہم آگے کی طرف دوڑے تھوڑی
 دور ہی گئے کہ آگے سے امت کے والی شاہ کو نیں ﷺ تشریف لے
 آئے اور آپ نے اور ہم سب نے دست بوسی کی پھر آنکھ کھل گئی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا هَذَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً وَ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةً
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ فی زمانہ کچھ لوگ اپنے کو عالم فاضل

کہلانے والے میلاد پاک کے جلسہ کے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہیں پھتیاں
کستے ہیں۔

واقعہ ۷۱

فیصل آباد میں ایک ایسے ہی حضرت تھے جو کہ ایک تنظیم کے سر
پرست بھی تھے وہ میلاد پاک کے دن لا ہور گئے تو راستہ میں دیکھا
شیخوپورہ کے اہل محبت نے جلوس نکالا ہوا ہے جلوس میں کچھ گذے بھی
تھے جو کہ جھنڈیوں سے سجائے گئے تھے یہ دیکھ کر ان حضرت نے جلوس
کے خلاف جگہ جگہ ہرزہ سرائی کی لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز کی بے نیازی
دیکھیں کہ جب آغا شورش کشمیری مدیر چنان گرفتار ہوئے تو انہیں
حضرت نے آغا صاحب کی رہائی کے لئے جلوس نکالا دیکھنے والوں نے
 بتایا کہ جلوس گھنٹہ گھر کو جارہا تھا اور وہی مولوی صاحب جو کہ جلوس اور
 جھنڈیوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے وہ سب سے آگے آگے
 جلوس کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا
 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بے نیاز ہے گویا فرمایا جارہا تھا اے میرے

بُنْدُ حبیب پاک کے جلوس اور جھنڈیوں کو بدعت کہنے والوں کیہ لو میں نے لفڑی تھیں تمہارے ایک بے ریش لیڈر کے جلوس کی قیادت بھی سونپ دی ہے اور جھنڈا بھی پکڑا دیا ہے اب روز قیامت تم نے جواب دینا ہو گا کہ یہ کیوں جائز اور وہ کیوں ناجائز ٹھہرا۔

واقعہ ۱۸

میاں عبد الرشید صاحب جو کہ روز نامہ نوائے وقت کے کالمنوں میں تھے انہوں نے ایک کالم بنام ”عقلمند الو“ لکھا تھا فرماتے ہیں آغاز بہار تھا شگوفے چکر ہے تھے پھول کھلکھلار ہے تھے ہوا میں کیف و سرستی کی کیفیت تھی مگر عقلمند الو ایک دیران جگہ اداس بیٹھا تھا کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں خوشی نہیں مناتے وہ آہ بھر کر بولا مجھے خزان کے جانے کا غم کھائے جا رہا ہے۔

عبد میلاد النبی ﷺ کا دن تھا فرش سے عرش تک خوشی کے ترانے گائے جا رہے تھے صلاۃ وسلام کے تحفے پچھاور کئے جا رہے تھے فضا تو پوں کی سلامی سے گونج رہی تھی مگر عین صحیح کے وقت جو حضور ﷺ کی

ولادت با سعادت کا وقت تھا ایک مولوی صاحب منہ بسور کر تقریر کر رہے تھے کہ یہ سوگ کا دن ہے آج کے دن نبی کی وفات ہوئی تھی۔

وجہ یہ ہے کہ جو دل حضور ﷺ کی محبت سے خالی ہے وہ خانہ خالی کی مانند ہے اس پر شیاطین قبضہ جمایتے ہیں اس کی سوچ الٹ جاتی ہے پھر اسے اچھی چیزیں بری اور بری چیزیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔

از میاں عبدالرشید صاحب

واقعہ ۱۹

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک
پچھے مذکور ہوا کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفوظ میلاد شریف میں
شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات مجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں
اور قیام میں لطف اٹھاتا ہوں زار بعد واقعہ بیان فرماتے ہیں میں
مولود شریف پڑھواتا ہوں اور قیام کرتا ہوں ایک دن میرا یہ حال ہوا کہ
بعد قیام سب بیٹھ گئے مگر میں بے خبر کھڑا رہ گیا بعد دیر کے مجھ کو ہوش آیا
تب بیٹھا۔

انوار ساطعہ - ص ۳۱۹

سبحان اللہ سبحان اللہ والوں پرمیلاد پاک کے برکات کیسے برستے
ہیں کہ ان برکات کی وجہ سے ہوش ہی نہ رہا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے
حبیب لبیب رحمت دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے میلاد پاک کے فیوض و برکات سے
مالا مال کرے۔ آمین

واقعہ ۲۰

سیدی محمدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ
ہجرت کے بعد لاکپور تشریف لائے تو آپ نے میلاد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے
جلوس کا آغاز کیا اور یہ میلاد پاک کا جلوس لاکپور فیصل آباد ہے کی
تاریخ میں پہلا جلوس میلاد پاک کا تھا جو کہ آج تک جاری و ساری ہے
پھر جب سیدی محمدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف
ہوا اور آپ کا تابوت مبارک اسٹیشن سے جامعہ رضویہ کی طرف لا یا جا رہا
تھا عقیدتمندوں کے ٹھٹھے کے ٹھٹھے تھے جنازہ مبارکہ کے ساتھ باس
باندھ دیئے گئے تھے تاکہ ہر عقیدتمند کو کندھا دینے کی سعادت حاصل
ہو سکے اور پھر جب آپ کا تابوت مبارک پکھری بازار سے شہر کے اندر داخل

ہوا تو جنازہ مبارکہ پر نور کی بارش ہو رہی تھی جو کہ سینکڑوں لوگوں نے
دیکھی بیالیس سال گزر گئے ابھی تک ان دیکھنے والوں میں سے کچھ
احباب بقید حیات زندہ ہیں جن میں سے میرے لخت جگر حاجی محمد افضل
صاحب سلمہ ہیں اور حکیم عبدالحق بھی زندہ ہیں حکیم موصوف بیان کرتے
ہیں کہ میں ان دنوں لاہور طبیہ کالج میں پڑھتا تھا گھر چھٹی پر آیا ہوا تھا
کہ حضرت کا جنازہ مبارکہ لائسپور پہنچا اور جب جنازہ مبارکہ کے پچھری
بازار سے اندر داخل ہوا تو آپ کے جنازہ مبارکہ پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔

گویا کہ قدرت کی طرف اعلان تھا اے میرے حبیب کا
میلاد مبارک دھوم دھام سے کرنے والے جن بازاروں سے تو جلوس
لے کر جایا کرتا تھا انہی بازاروں میں بطور صلح و انعام تجھ پر میری
رحمت نور کی بارش کی صورت میں برس رہی ہے۔

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَجَعَلَ قَبْرَهُ الشَّرِيفَ رَوْضَةً مِنْ
رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَأَذْخَلَهُ جَنَّاتَ النَّعِيمِ بِفَضْلِهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

﴿سُوَال﴾

یہ نور کی بارش کہاں سے آتی تھی

﴿جواب﴾

یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھیں جو کہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو نبی اکرم ﷺ کی پیدائش مبارکہ کے دن اس مکان شریف میں میلاد پاک ہوا جس مکان میں رحمت کائنات ﷺ کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی میلاد خوانی کے دوران یکدم انوار بلند ہوئے میں نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان فرشتوں کے ہیں جو کہ ایسی محفلوں پر موکل ہیں نیز میں نے دیکھا کہ ملائکہ کے انوار کے ساتھ رحمت کے انوار بھی شامل ہو گئے ہیں۔

(فیوض المحریم)

لہذا اگر ان ملائکہ کرام جو کہ ایسی پاک محفلوں پر موکل ہیں ان ملائکہ کے انوار کے ساتھ رحمت الہی کے انوار بھی شامل ہو کر ایک

عشق رسول ﷺ کے جنازہ مبارکہ پر برسیں تو کون سی اچھنے کی بات

ہے ان رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔

قارئین حضرات آپ مشورہ دیں کہ ہم کن کی مانیں؟

ایک طرف ان عشاق مصطفیٰ ﷺ کی لمبی چوڑی فہرست ہے جن کے دل و دماغ میں رگ دریشہ میں لوئیں نوئیں میں عشق رسول ﷺ رچا بسا ہے جن کا ہر کام سنت رسول ﷺ کے مطابق ہوتا ہے کتابوں میں تو تذکرے قلمبند ہیں لیکن ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں مثلاً سیدی محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب لاکپوری (فیصل آبادی) یہ فقیر ابوسعید غفرانی فیصل آبادی زندگی میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے والا سب سے پہلا طالب علم ہے اور آخری ایام تک خدمت با برکت میں رہا۔

نگے سرنماز پڑھنا تو درکنار پوری زندگی میں یاد نہیں کہ آپ نے صرف ٹوپی یا صرف گپڑی سے نماز پڑھی ہو کیونکہ سنت مصطفیٰ ﷺ یہی ہے کہ نماز میں ٹوپی پر گپڑی ہو۔

اور حدیث پاک کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں سیر پ پیتے ہیں گولیاں اور سفوف کھاتے ہیں لیکن میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی حدیث پاک پڑھاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں ۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک حکیم صاحب ملاقات اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور میں ایک معجون بناتا ہوں جو کہ دماغ کی تقویت کے لئے بہت مفید ہے اگر اجازت ہو تو بنا کر لاوں یہ سن کر فرمایا یہ آپ کی محبت و عقیدت ہے وہ حکیم صاحب کچھ دنوں کے بعد بند ڈبہ میں معجون بنائے اور خدمت میں پیش کی آپ نے فرمایا میری کتابوں والی الماری کے نیچے والے خانے میں رکھ دو حکیم صاحب معجون رکھ کر چلے گئے میں نے دیکھا کہ وہ معجون مہینوں تک وہاں رکھی رہی آپ کو وہ معجون کھانے کا موقعہ ہی نہ ملا کیوں کہ آپ کے نزدیک سب کچھ حدیث پاک کے ساتھ والہانہ عشق ہے ۔

اور جب آپ ﴿سیدی محدث اعظم پاکستان﴾ زیادہ علیل ہوئے تو

ڈاکٹروں نے مشورہ دیا آپ پڑھانا بند کر دیں اور سیر کریں آپ فرمایا
 کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے سیر کرنے کے لئے نہیں بنایا چنانچہ
 نقاہت کی حالت میں بمشکل سیڑھیاں چڑھ کر دارالحدیث میں آتے اور
 حدیث پاک پڑھانا شروع کر دیتے اور پڑھانے کے دوران محسوس
 نہیں ہوتا تھا کہ آپ یکار ہیں بلکہ گھنٹوں پڑھاتے رہتے تھے یہ تھا عشق
 رسول ﷺ رَحْمَةُ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَأَوْسَعَهُ وَأَدْخِلْهُ جَنَّاتُ النَّعِيمِ۔
 الی اصل ایسے عشاق کی فہرست میں سے حضرت امام جلال الدین
 سیوطی ہیں جو کہ نوسوال بعد جا گتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ۵۷ بار
 دیدار مصطفیٰ ﷺ سے مشرف ہوئے (میزان الشریعة الکبریٰ)
 وہ فرمائے ہیں کہ میلاد پاک کے دن مستحب ہے کہ اظہار خوشی کیا جائے
 صدقات و خیرات کے جامیں اجتماعات (جلسہ و جلوس) منعقد کئے
 جائیں۔

کیا ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے والد ماجد
 ولی کامل حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کی بات مانیں جو کہ بارہا زیارت

مصطفیٰ ﷺ سے نوازے گئے

کیا ہم حضرت مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات مانیں جو کہ ہر سال میلاد پاک منعقد کرتے تھے اور ایک بغض و عناد والے مولوی کو دکھا دیا کہ یہ عشق رسول کی قندیلیں ہیں یہ پھونکوں سے نہیں بچ سکتیں۔

کیا ہم امام القراء امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات مانیں جو کہ ثویبہ لونڈی اور ابو لہب والا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر ابو لہب جس کی نذمت میں پوری سورہ نازل ہوئی وہ نبی اکرم ﷺ کی ولادت پاک کی خوشی میں لونڈی ثویبہ کو آزاد کر کے ہر پیر کے دن انعام و اکرام کا حقدار ہو سکتا ہے تو ایمان و محبت والا امتی جو کہ نبی اکرم ﷺ کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں مال خرچ کرتا ہے خوشیاں مناتا ہے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے مجھے جان کی قسم ایسا امتی نعمتوں والی بیشتوں میں ہو گا۔

کیا ہم شیخ الحمد شین شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کی بات مانیں جو کہ دائم الحضوری تھے اور وہ حبیب خدا ﷺ کے فرمان کے

مطابق مدینہ منورہ سے ہندوستان تشریف لائے اور یہاں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کیا جو کہ فرمائی ہے ہیں۔

تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ میلاد پاک منعقد کرنے والا انعام واکرام کا حقدار ہو جاتا ہے نیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمہ فرمائے اس مسلمان پر جو کہ میلاد پاک کی راتوں کو عید جانتا ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ جن کا عقیدہ ہے کہ جبیب خدا سید انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی رات لیلة القدر سے بھی افضل ہے۔

کیا ہم امام نووی شارح صحیح مسلم کے استاد مکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات مانیں جو کہ فرمائی ہے ہیں یہ جو ہمارے زمانہ میں ہر سال میلاد پاک کے دن صدقات و خیرات کئے جاتے ہیں زینت و سرور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم پر دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی جو کہ رحمۃ للعالمین بن کر تشریف لائے۔

کیا ہم امام سخاوی جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں

جنہوں نے درود پاک کے موضوع پر ایسی پیاری کتاب لکھی ہے بنام ﴿القول البدیع﴾ جو کہ رہتی دنیا تک عشق رسول کا درس دیتی رہے گی

کیا ہم حضرت توکل شاہ انہالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات مانیں
جیسے کہ مولانا محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ میں حضرت
توکل شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوا تو وہاں مسیلا دپاک کا جلسہ
منعقد کیا گیا اور مجھے بھی اس جلسہ میں بلا یا گیا ارجو جب لوگ کھڑے ہو
کر صلاۃ سلام پڑھنے لگے تو میں کھڑے ہو کر بیٹھ گیا جلسہ کے اختتام پر
میر صاحب نے میری شکایت کر دی میں حاضر ہوا تو حضرت توکل شاہ
صاحب نے فرمایا مولوی صاحب جب جب حبیب خدا علیہ السلام کی ولادت
مبارکہ ہوئی تو مشرق و مغرب کے وحش و طیور خوشیاں منار ہے تھے نیز
مولوی صاحب آپ قیام کے وقت یہ تصور کر لیا کریں کہ مدینہ منورہ
سے میرے سینہ میں فیض آرہا ہے زال بعد جب بھی میں صلاۃ وسلام
کے وقت کھڑا ہوتا ہوں مجھے مدینہ منورہ سے فیض آتا ہے۔ الحمد للہ رب
العالمین۔ کیا ہم حضرت مولانا حکیم فضل محمد جالندھری کی بات مانیں

جو کہ بڑی محبت سے دھوم دھام کے ساتھ میلاد پاک کیا کرتے تھے۔

کیا ہم حضرت شاہ ابوالخیر مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات جو
صاحب کرامات ولی تھے جو کہ میلاد پاک کی مخالفت کرنے والوں کو بد
عقیدہ جانتے تھے۔

بایہم ان کی مانیں جن کے دلوں میں بغرض و عناد بھرا ہوا ہے
وہ اپنے اکابر اور اپنے لیڈروں کی یاد میں سب کچھ کر جائیں
دن بھی مقرر کیے جائیں تداعی و تشویہ بھی اشتہارات و اخبارات
کے ذریعے خوب پر چار کیا جائے فضول خرچی اتنی کہ بلب اور
ثبوتوں کا شمار کرنا مشکل ہو جائے لیکن یہی چیزیں اگر میلاد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہوں تو فتوے گرم ہو جائیں کہ یہ ناجائز ہے بدعت
ہے۔ بتائیے کہ ہم کن کی مانیں

ساعین حضرات اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کن کے پیچھے چلنا ہے اور
 اگر آپ کہیں یہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں ایسا کہنا بہت بڑی
 منافقت ہے منافقوں کی اس روشن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدیں
 الفاظ بیان فرمایا ہے لاَالَّى هُنُولَاءِ وَلَاالَّى هُنُولَاءِ یعنی منافق
 لوگ نہ ادھر پوری طرح ہیں نہ ادھر ہیں کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی
 ٹھیک ہیں۔

اے میرے عزیز!

دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا
 اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے۔ آمین بجاہ حبیب اللہ رحمہ و خلیلہ

در دمندانہ استدعاء

سب بھائیوں کلمہ گو مسلمانوں کی خدمت میں در دمندانہ استدعاء
 ہے کہ خدار ایسا اختلاف یہ شرک و بدعت کے فتوے چھوڑ کر میلا دپاک
 کی خوشی میں محفلیں سجائیں ناجائز کاموں اور خرافات سے نج کر جلے
 جلوس منعقد کریں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کریں پھر سارے کے

سارے دربار الہی میں التجا نمیں کریں کہ اے رحیم و کریم مولیٰ اسلام ﷺ کا بول بالا کر عالم اسلام کی خیر اور حفاظت فرم آج جبکہ یہود و ہندو اسلام کے خلاف برس پریکار ہیں۔ اہل اسلام پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سب متحد ہو جائیں اور اہل ایمان کا کردار کریں۔ پھر دیکھیں اسلام کو کیسے فتح نصیب ہوتی ہے کیوں نہ ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرآن مجید میں چمکتا و مکتا اعلان موجود ہے:

لَا تَهْنُوا وَلَا تَخْرُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ -

یعنی مسلمانوستی نہ کرو غم نہ کھاؤ تم ہی کامیاب و کامران ہو فتح تمہاری ہی ہے ۔ صرف ایک شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ مسلمان بھائیو یہ کون سی خیر خواہی ہے کہ انگریز تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن دنیا بھر میں منائیں اس دن دنیا بھر میں کالجوں میں سکولوں میں، دفتروں میں چھٹی ہو لیکن مسلمان اپنے نبی رحمت کائنات ﷺ کی پیدائش کے دن آپس میں فتویٰ بازی شروع کر دیں

لَا حَزْلٌ
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

{ دعاء }

یا اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا کر کر وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑانہ ماریں
حسبنا اللہ نعم الوکیل وصلی اللہ تعالیٰ علی جیبہ سید العالمین وعلی الہ واصحابہ
اجمیعین الی یوم الدین۔

{ نکتہ }

عموماً بڑے لوگ یعنی دولتمند لوگ میلاد پاک کے جلوس میں شریک
نہیں ہوتے الامن شاء اللہ کیونکہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اگر
چھوٹے لوگوں کے ساتھ جلوس میں شریک ہوں تو وہ اس میں ہتک سمجھتے
ہیں۔ ہاں ان کے بیٹے کی بھائی کی یا بھتیجی، بھانجے کی شادی ہو تو برات
کے ساتھ بخوشی جاتے ہیں۔ لیکن حبیب خدا سید انبیا علیہ السلام کے میلاد
پاک کے جلوس کے ساتھ چلانا پسند نہیں کرتے۔ بدیں وجہ خطرہ ہے کہ
قیامت کے دن معاملہ الٹ نہ ہو جائے کہیں چھوٹے بڑے اور بڑے

چھوٹے نہ کر دیئے جائیں کیونکہ قیامت تو صرف اظہار
عظمت مصطفیٰ ﷺ کے لئے قائم کی جائیگی۔

فقط اتناسبب ہے انعقاد بزم محشر کا

کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرمان جاری ہوا فرستو جو لوگ میرے حبیب کی

ولادت کی تقریبات میں خوشی خوشی شریک ہوتے تھے ان کو بڑے کردو

لیکن جو لوگ اپنی ناک او پنجی رکھنے کے لئے چھوٹوں کے ساتھ چلنے پسند

نہیں کرتے تھے اور اپنے بیٹوں، بھیجوں، بھانجوں کی برات کے ساتھ

بخوشی روای دوال ہوتے تھے ان کو نیچے کردو۔

(سوال)

فقط اتناسبب ہے انعقاد بزم محشر کا

کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔

اس کا کیا ثبوت ہے؟

﴿جواب﴾

اس کا ثبوت یہ ہے جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، و دیگر کتب حدیث میں مضمون ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے تو سورج بالکل قریب آجائے گا زمین آگ اگلتی ہو گی کوئی سایہ، کوئی محل، کوئی چھٹت، کوئی بلندگ نہ ہو گی پسینہ بہتا ہو گا کوئی پرسان حال نہ ہو گا پانی کی بوندھی میسر نہ ہو گی مخلوق مارے مارے پھرتی ہو گی یوں ہی عرصہ دراز گذر جائے گا پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا کریں آخر مشورہ یہاں پہنچے گا کہ کوئی وسیلہ تلاش کریں پھر فیصلہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور سب حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور تمام فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا آپ کو اپنی جنت میں رکھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا صفائی بنایا لہذا آپ رب تعالیٰ کے دربار ہماری شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی سے

نَجَاتٍ دَعَ آپ وَ يَكْتَهِنُونَ إِنَّمَا كُمْ يَمْرَا كَامْ نَهِيْنَ هُنَّ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامْ فَرَمَأَيْنَهُمْ كَمْ نَسْتَ هَنَاكُمْ يَمْرَا كَامْ نَهِيْنَ هُنَّ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيْ تَمْ كَسِيْ أَوْرَكَهُمْ بَاسْ جَاؤَ لَوْگَ عَرْضَ كَرِيْسِيْنَ گَرَّ آپ هُمِيْنَ كَسِيْ كَهُنَّ بَاسْ بَحْجِيْتَهُنَّ هُنَّ حَضْرَتْ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامْ فَرَمَأَيْنَهُمْ كَمْ نُورَ حَلَيْهِ السَّلَامْ كَهُنَّ بَاسْ جَاؤَ لَوْگَ جَبْ حَضْرَتْ نُورَ حَلَيْهِ السَّلَامْ كَيْ خَدْمَتْ مِنْ حَاضِرَهُوْ كَرْ عَرْضَ گَذَارَهُوْ گَرَّ تَوْسِيْدَنَا نُورَ حَلَيْهِ السَّلَامْ بَھِيْ بَھِيْ فَرَمَأَيْنَهُمْ كَمْ نَسْتَ هَنَاكُمْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيْ يَمْرَا كَامْ نَهِيْنَ تَمْ كَسِيْ أَوْرَكَهُمْ بَاسْ جَاؤَ لَوْگَ عَرْضَ كَرِيْسِيْنَ گَرَّ آپ هُمِيْنَ كَسِيْ كَهُنَّ بَاسْ بَحْجِيْتَهُنَّ هُنَّ فَرَمَأَيْنَهُمْ كَمْ اللَّهُ تَعَالَى كَهُنَّ بَيْارَهُ خَلِيلَ ابْرَاهِيمَ كَهُنَّ بَاسْ جَاؤَ اورْ جَبْ لَوْگَ سَيِّدَنَا ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ كَيْ خَدْمَتْ مِنْ حَاضِرَهُوْ كَرْ عَرْضَ گَذَارَهُوْ گَرَّ تَوْخَلِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَھِيْ بَھِيْ یوں ہیْ فَرَمَأَيْنَهُمْ كَمْ نَسْتَ هَنَاكُمْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيْ يَمْرَا كَامْ مِرَا نَهِيْنَ تَمْ كَسِيْ أَوْرَكَهُمْ بَاسْ جَاؤَ لَوْگَ عَرْضَ كَرِيْسِيْنَ گَرَّ آپ هُمِيْنَ

کس کے پاس بھیجتے ہیں آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چاہو جب لوگ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے:

لَئِنْ شَرُّكُمْ.....نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيْ
یہ میرا کام نہیں تم کسی اور کے پاس چاہو تو لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں آپ فرمائیں گے تم عیسیٰ کے پاس چاہو جب لوگ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے:

لَئِنْ شَرُّكُمْ.....نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيْ
یہ میرا کام نہیں تم کسی اور کے پاس چاہو لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم اس ذات گرامی کی خدمت میں حاضری دو جو کہ اولاد آدم کے سردار ہیں جو کہ آج کے دن بے خوف ہیں اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَلْيَسْفَعُ
لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ تم اللہ تعالیٰ کے جبیب محمد ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہو جاؤ وہ تمہاری شفاعت کریں گے جب سب کے سب
 اولین و آخرین تھکے ہارے اشکبار غنوں کے مارے حاضر ہو کر عرض
 کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے حبیب آپ ہمارے لئے اپنے رب کریم
 کے دربار شفاعت کرویں کہ وہ ہمارا حساب لے لے یہ سن کر حبیب خدا
 سید انبياء رحمۃ للعالمین شفع المذنبین اکرم الاولین والآخرین یہ نہیں
 فرمائیں گے لَسْتُ هَنَاكُمْ کہ یہ میرا کام نہیں تم کسی اور کے پاس
 جاؤ بلکہ فرمائیں گے: أَنَّا لَهَا أَنَّا لَهَا يہ کام میرا ہے میں ہی شفاعت
 کے لئے ہوں پھر رحمت دو عالم حبیب خدا ﷺ بر اق پر سوار ہو کر مقام
 محمود پر پہنچیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

غَسِّيْ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودًا.

محبوب وہ دن دور نہیں جب تیرارب کریم تھے مقام میں پہنچائے گا
 اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مقام محمود مقام شفاعت ہے۔

﴿مَا خُوذَ ازْجَلَ الْيَقِينَ بَانْ نَبِيْنَا سَيِّدُ الرَّسُولِينَ - ص ۱۷﴾

﴿مقام غور و فکر﴾

ساری خدائی میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں رسولوں کی شان اعلیٰ و ارفع ہے اور نبیوں رسولوں ﴿عَلٰی نبِیْنَا وَ اٰلِہٖہم الصلاة والسلام﴾ میں سے پانچ حضرات سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان ارفع و اعلیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اولین و آخرین کو ان پانچ حضرات کی بارگاہ میں پہنچای ریگا بعد میں سب لوگ اللہ تعالیٰ کے جبیب رحمۃ للعالمین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گوہ مراد حاصل کریں گے اور یہ چکر اس لئے لگوایا جائے گا تاکہ کسی کے دل میں کوئی خیال و گمان کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے کہ شاہد یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے نیز قابل غور بات یہ ہے کہ حساب تو اللہ تعالیٰ نے ہی لینا ہے پھر اتنا وقت اور اتنے چکر کیوں لگوائے جائیں گے۔

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا

کہ ان کی شان محبوبی و کھائی جانے والی ہے

خلیل و نجی مسیح و صفتی سمجھی سے کہی کہیں بھی نہیں

یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے
اور جب یہ واضح ہو گیا کہ قیامت قائم ہی محبوب کی شان محبوبی دکھانے
کے لئے ہے تو جو لوگ والہانہ طور پر رفتار شان مصطفیٰ ﷺ کا کردار ادا
کرتے رہتے ہیں وہ کیوں نہ سرفرازی اور بلندی درجات کے حقدار
ہوں گے۔ اس لئے یہیں پر سوچ لینا چاہیے کہ جلوس میلاد پاک کو
اہمیت دینا چاہیے یا کہ بھائی، بیٹی، بھتیجی، بھانجے کی تقریب شادی کو
اہمیت دینی چاہیے۔

جا گنا ہے تو جاگ لے افلک کے سایہ تلے
حضرتک سوتار ہے گا خاک کے سایہ تلے
پھر یہ کہ جو مسلمان حبیب خدار حمۃ للعالمین ﷺ کی ولادت پاک
پر زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اس پر حبیب خدا ﷺ بھی خوش ہوتے
ہیں۔

حضرت خواجہ ابن نعمان خواب میں زیارت مصطفیٰ ﷺ

مشرف ہوئے تو مسئلہ پوچھ لیا یا رسول اللہ جو لوگ ہر سال جناب کی ولادت پاک پر خوشیاں مناتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے یہ سن کر رحمت دو عالم چلائی اللہ نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔

﴿تذكرة الاعظين - ص ۵۵۲﴾

لہذا جو مسلمان یہ خیال کرے کہ یہ میرے آقے اللہ کے میلاد پاک کا جلوس ہے خوشی خوشی اچھا بآس پہن کر خوشبوونگا کر شامل ہو گا کیا اس پر حبیب خدار رحمۃ للعالمین خوش نہ ہوں گے یقیناً خوش ہوں گے اور جب سرکار خوش ہو گئے تو پھر جنت ہی جنت ہے۔


نیز حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن زیادہ فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں قیامت کو کیا حال ہوگا۔ آنکھ لگ گئی تو قسمت جاگ انھی زیارت مصطفیٰ علیہ السلام سے سرفراز ہوئے تو سرکار نے فرمایا غلام علی جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ دوزخ نہیں جائے گا ﴿تذکرہ مشائخ نقشبندیہ﴾ اس سے وہ حضرات بھی عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ عمل ہی سب کچھ ہے اگر عمل ہی سب کچھ ہے تو چاہئے کہ قیامت کے دن اس

میں مصیبت و پریشانی میں یوں عرض کریں یا اللہ تجھے نماز روزے کا واسطہ
تجھے حج و عمرہ کا واسطہ، تجھے دنیا بھر میں پھر پھر کرتبلیغ کرنے کا واسطہ ہمیں
اس مصیبت و پریشانی سے نجات عطا کر۔

ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث یا کسی تفسیر میں اس کا
نام و نشان ہے اور جو اور پر مذکور ہوا کہ حبیب خدا علیہ السلام کے شفاعت سے
چھٹکارا ملے گا یہ صحاح ستہ و دیگر حدیث پاک کی معتبر کتابوں سے ثابت
ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا کرے یا اللہ ہمیں سچی سچی محبت عطا کر۔

محتاج دعاء فقیر ابوسعید محمد امین غفرانہ ولوالدیہ ولا حباہ

۲۰۰۳ء فروری ۲۲ مطابق ۱۴۲۳ھ ذوالحجہ



اکابر علماء اور رائے دین میں سے کس کس نے میلاد پاک کو

جائز و مستحب قرار دیا ہے۔

۱۔ شیخ الحمد شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی

۲۔ امام شمس الدین جزری

۳۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

۴۔ امام جلال الدین سیوطی

۵۔ شاہ عبدالرحیم دہلوی

۶۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کنی

۷۔ علامہ ابن جوزی

۸۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی

۹۔ حضرت حکیم فضل محمد جالندھری

۱۰۔ حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی

۱۱۔ ابوالہب والا واقعہ لکھنے والے امام بخاری

۱۲۔ حضرت شاہ احمد سعید دہلوی

۱۳۔ حضرت خواجہ زید فاروقی از ہری



۱۴۔ حضرت علامہ ابن حجر

۱۵۔ حضرت علامہ ابو شامة

۱۶۔ حضرت توکل شاہ انبالوی

۱۷۔ امام سید جعفر بروزنجی

۱۸۔ امام علامہ محمد یوسف نبہانی۔ رحمۃ اللہ علیہم

ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے نو سال بعد جاگتے ہوئے پھر بار رحمت کائنات ﷺ کی زیارت کی جیسے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہر روز زیارت نصیب ہوتی تھی جیسے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو حبیب خدا ﷺ نے ﴿میرا محبوب﴾ کا لقب عطا کیا جیسے کہ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اے مسلمان بھائی سوچ اور غور فکر کر کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے اللہ تعالیٰ نظر بصیرت عطا کرے۔ آمین۔

﴿ابوسعید مفتی محمد امین غفرانی﴾

طالب و معلم

محمد کا شفیع میر

Mobile : 0092 345 777 6062

www.kashifmir.weebly.com